



سوال

(858) "بس اب تو میری بیوی ہے۔" کہنے سے بیوی نہیں بنتی

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ رہی ہوں اور شرعی آداب کی پابند عورت ہوں۔ مجھے ایک نوجوان نے نکاح کا پیغام دیا ہے اور وہ حلیے سے مجھے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ "بس اب تو میری بیوی ہے۔" اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بعض اہل علم شہرت دیے بغیر نکاح کو جائز کہتے ہیں کہ بعد میں اعلان کر لیا جائے گا۔ نیز امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ "جس نے شہرت دیے بغیر نکاح کیا ہو، اسے رجم نہیں کیا جائے گا۔" اور میں (ساتھ) اکیلی رہتی ہوں، میں نے اس شخص کو ملنے سے انکار کر دیا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ "تو میری بیوی ہے، تو مجھے کیسے منع کر سکتی ہے" اور جب میں کہتی ہوں کہ گواہ لاؤ اور میرے والد کو لے آؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسے گواہ تلاش کر رہا ہوں جو اس خبر کو فی الحال پوشیدہ رکھیں تاکہ میری پہلی بیوی کو علم نہ ہو، میں اسے بعد میں خود ہی بتاؤں گا۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں اور نہ ہی کسی کے لیے ممکن ہے کہ عورت کے عصبہ میں سے کسی ولی کی موجودگی کے بغیر اس سے نکاح کر سکے، اور ولی بھی وہ جو شرعی ترتیب سے اولی ہو۔ بغیر ولی کے نکاح قطعاً صحیح نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے یہی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا مِنَّا ۚ إِنَّكُمْ تُعْتَدُونَ لَهُمْ عَجَلًا قَلِيلًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا هُمَا سُبُلًا ۚ سُبُلًا مَّا نَدْعُوا ۚ تَلَوَّاعًا لِّلْبَاقِي ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا... ۲۲۱ ... سورة البقرة

"اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، (ان کے مقابلہ میں) مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہت بہتر ہے خواہ وہ (مشرک) تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ اور مشرک مردوں کو (اپنی لڑکیاں) نہ بیاہ دو، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔"

مردوں سے فرمایا ہے کہ "مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔" اور مسلمان عورتوں کے بارے میں فرمایا: "مشرکوں کو نکاح نہ کر دو۔" یہ الفاظ دلیل ہیں کہ عورت اپنے نکاح کے سلسلے میں مستقل بالذات نہیں ہے۔

اسی طرح نکاح کی ترغیب کے سلسلے میں اولیاء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ... ۳۲ ... سورة النور



”اور تم میں سے جو نکاح کیے بغیر ہیں ان کے نکاح کر دو اور (اسی طرح) اپنے صالح غلاموں کے بھی۔“

اور عورتوں کے معاملات میں بھی اولیاء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَئَوْهُنَّ مَبْرُورَاتٍ ... سورة البقرة ۲۳۲

”تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جب وہ بھلائی کے ساتھ آپس میں رضامند ہوں۔“

اگر نکاح میں ولی ہونا شرط نہ ہوتا تو اس فرمان میں اس کے منع کی کوئی حیثیت ثابت نہیں ہوتی۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بصراحت فرمایا ہے کہ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب فی الولی، حدیث: 2085۔ سنن الترمذی، کتاب النکاح، باب ماجاء لانکاح الایولی، حدیث: 1101 و سنن ابن ماجہ، کتاب

النکاح، باب لانکاح الایولی، حدیث: 1881۔)

”ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔“

اور فرمایا:

لَا تَنْكِحُوا الْمُتَمَسِّحَاتِ تَمَسُّحًا، وَلَا تَنْكِحُوا ابْنَتَيْ تَمَسُّحٍ (صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب لا ینکح الاب وغیرہ البکر والیتیم الابرضاعا، حدیث: 4843 و صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استئذان الیتیم فی

النکاح، حدیث: 1419۔)

”شوہر دیدہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے، اور کنواری کا بھی جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے“

صحابہ نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! کنواری کی اجازت کیسے ہوگی؟ فرمایا ”نہی کہ وہ خاموش رہے۔“

ان حقائق کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ایک حیلے سے اس عورت کے ساتھ خلوج میں ملنا چاہتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ: ”تو میری ہی بیوی ہے۔“ یہ بات کہنے سے یہ عورت اس کی بیوی نہیں بن سکتی، بلکہ اس مقصد کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے۔

اور یہ مسئلہ کہ نکاح کی شہرت ہو اور اس کا اعلان کیا جائے، اس میں علماء کا قدرے اختلاف ہے۔ کچھ تو قائل ہیں کہ اعلان بہت ضروری ہے اور دوسرے کہتے ہیں اظہار اور شہرت کافی ہے، اعلان خواہ نہ بھی ہو۔

الغرض اس آدمی کا یہ دعویٰ کہ یہ عورت میری بیوی ہے سراسر جھوٹ ہے، اس کی شرعی طور پر کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس عورت کو چاہئے کہ اپنے اولیاء اور سرپرستوں سے رابطہ کرے تاکہ وہ اس آدمی کو اس سے دفع دور کر دیں۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا



مجلس البحث والدراسات
الاسلامية
محدث فتوى

صفحه نمبر 602

محدث فتویٰ